

- (v) curb, kerb  
 (vi) faze, phase  
 (vii) maybe, may be  
 (viii) moat, mote

(b) Use any Five of the following in sentences which illustrate their meaning:

- (i) Smash hit  
 (ii) Murphy's law  
 (iii) Plance in the Sun  
 (iv) Wooden spoon  
 (v) Go bananas  
 (vi) Beard the Lion in his den  
 (vii) Groan inwardly  
 (viii) Chicken out

Q7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative / idiomatic expression.

عام لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کے قانون اور فرد کی آزادی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات غلط معلوم نہیں ہوتی۔ ہر قانون شہریوں پر کوئی نہ کوئی پابندی عائد کرتا ہے۔ اگر ملک میں قوانین کی تعداد و زیادہ ہوئی ہیں۔ زیادہ پابندیوں سے فرد کی آزادی ان کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس قوانین کی تعداد کم ہو تو شہریوں کی آزادی کا دائرة وسیع ہوتا ہے۔

Generally people think law of the state and liberty of <sup>people</sup> ~~public~~ are antithesis. Apparently, it doesn't seem wrong. Every law imposes certain restriction on citizens. If the number of laws is increased in the country, freedom of people will be under suppression.

Contrary to it, if the number of laws is less - the freedom of people will be enhanced.

Follow the margin line

Rephrase

Add idiomatic expressions